

احکام و مسائلِ رمضان المبارک

صدمتہ الفطر

روزے میں نیت کی ضرورت کا بیان | روزے میں نیت شرط ہے۔ (نیت کے معنے ارادہ نہیں کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ ادا نہ ہوگا۔ رمضان کے روزہ کی نیت آدھے دن شرعی تک کر سکتا ہے۔ یعنی تقریباً ساڑھے گیارہ بجے تک اس کے بعد اگر نیت کر لیکا۔ تو معتبر نہ ہوگی۔ زبان سے نیت کرنا فرض نہیں۔ لیکن پہتر اور ستحب ہے کہ سحر کا کھانا کھا کر استرح نیت کر دیا کرے۔ بصوہم عدید نویست میں شہرِ رمضان۔ اگر افطار کے وقت ہی نیت کرے تو بھی جائز ہے۔ بعض لوگ بجیہ سمجھتے ہیں کہ نیت کے بعد کھانا پینا جائز نہیں یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بلکہ صحیح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا وغیرہ بلاشبہ درست ہے۔ نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔

آن بالوں کا بیان ہن سے روزہ نہیں جاتا | بھول کر کھانا پینا روزہ کو نہیں توڑتا۔ بلا اختیار مغلن میں گرد و غبار یا کھی پھر چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوڑتا۔ آٹا پسینے والے اور تباکو کو ملنے والے کے محل میں بھر آٹا وغیرہ اُڑ کر جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا۔ کان میں پانی چلا جاوے یا خود بخود قائم اوسے یا خواب میں عمل کی حاجت ہو جاوے یا قے اگر خود بخود بوت جاوے ان سب بالوں سے روزہ نہیں جاتا اور کچھ محل نہیں آتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں جاتا۔ خوش بر سو نگھنے سے کچھ غل نہیں آتا۔ بلغم نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوڑتا۔ اگر قصر اُنے کی گلہ تھوڑی سی (یعنی مخفی بھر سے کم) تو روزہ نہیں جاتا۔ تھوڑی سی قے آئی اور قصر اُنکا کنگل لیا تو اس میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی روزہ میں بھول کر کچھ کھا پی رہا ہے۔ اور تو قی و تندست ہے۔ تو اس کو یاد دلا دینا جائز ہے۔ اگر صحف و نمازوں ہے تو نہ یاد دلانا درست ہے۔ اگر خود بخود مسوک وغیرہ کرنے سے دانہوں سے خون نکلے۔ لیکن محل میں نہ جائے۔ تو

روزہ میں خل نہیں آتا۔ اگر خواب میں یا صحبت کرنے سے رات کو عنسل کی حاجت ہوئی اور صحیح صادق ہونے سے پہلے عنسل نہیں کیا تو روزہ میں خل نہیں آتا۔ اگر دن کو سوتے ہوئے عنسل کی حاجت ہوگئی تو روزہ میں ذرا بھی نقصان نہیں آتا۔

جتنی باطل سے قضا و اجب ہوتی ہے | قرآن، منہج بھر قے آئی تھی اُس کو نکل جانا۔
 کان میں یا ناک میں دوا ڈالنا۔ قصد اِنھیں بھر کی کرتے ہوئے حلن میں پانی چلا جانا۔ یہ سب پیرینیں روزہ کو تورنے والی میں۔ مگر صرف قضا آئے گی کفارہ واجب نہیں۔ لکھ کر یا لوہے تابنے وغیرہ کو نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور صرف قضا و اجب ہو گی کفارہ نہیں۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھانی۔ تو اس روزہ کی قضا واجب ہوگی۔ دن باقی تھا غلطی سے سمجھ کر کہ آذتاب غروب ہو گیا روزہ کھول لیا تو صرف قضا و اجب ہو گی کفارہ نہیں۔ جان بھول کر بدوس بھونے کے صحبت کرنا۔ کھانا پینا روزہ کو تورنے تا ہے۔ اوقتنا بھی آتی ہے، اور کفارہ بھی۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک علام آزاد کیا جائے۔ اس کی طاقت نہ ہو تو منواتر ساٹھ روزے رکھنا۔ اسکی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا۔

جتنی چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اور جن سے مکروہ نہیں ہوتا | بلا ضرورت کی شے کو چاہنا یا نک وغیرہ کا ذائقہ دیکھ کر بخوب دینا مکروہ ہے۔ قصد اِنھیں بخوب اکھا کر کے نکل جانا مکروہ ہے۔ غیبت، بدگوئی، رطائی، جھگڑا روزہ کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ اور ثواب بہت کم رہ جاتا ہے مساک کرنا۔ سر پر یا موچھوں پر تیل لگانا مکروہ نہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا مکروہ نہیں۔ سُرمہ لگانے سے یا سرمہ لگانا کر سو جانے سے روزہ میں کچھ خل نہیں آتا۔ ناداقف لوگ جو مکروہ سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ خوشبو سو نگھنا مکروہ نہیں۔ اگر بی بی کو اپنے خاوند، نوکر کو اپنے آقا کے عفستہ کا اندریشہ ہو تو کھانے کا نک چکھ کر بخوب دینا مکروہ نہیں۔

روزہ نہ رکھنے کی اجازت کا بیان | اگر مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو قضا کرے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے زیادہ ہو جانے کا خوف ہے تب بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کرے۔ حاملہ کو اگر بچے یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندریشہ ہو تو روزہ چھوڑ دینا اور پھر قضا کر لینا جائز ہے۔ اپنے یا غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ

سے عذر پر تو قضا کرنیا جائز ہے۔ ہمارے نواح کے چھتیں^{۱۸} کوں یعنی انگریزی اٹالیس میں کا سفر ہبیا اس سے زیادہ ہبودہ سفر شرعی کہلانا ہے۔ یعنی اسے سفر میں مسافر کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، واپس آنے کے بعد قضا کرے۔ اگر کوئی مسافر دوپر سے پہلے اپنے وطن میں ہبھج گی۔ اور اب تک کچھ کھایا پیا ہنسی تو اُس پر واجب ہے کہ روزہ پرداکرے کیونکہ اب سفر کا عذر باتی ہنسی ملا اگر کوئی شخص کسی تین سواری یا ریل میں دو تین گھنٹے میں اٹالیس میں ہبھج جائے گا۔ اُس کے لئے بھی سفر کی رخصت یعنی نماز کا قصر اور افطار کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ بہت بڑھا صعیف جس کو روزہ میں ہنایت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بعد پونے دوسری گندم (بوزن انگریزی) مسکین کو دے لیں اگر بچہ کبھی طاقت آجائے گی تو قضا کھنی ضروری ہوگی۔ عورت کو اپنے معمولی عذر (یعنی حصہ) کے لیام میں روزہ رکھنا درست ہنسی۔ اسی طرح پیدائش کے بعد جتنے روز خون آؤے۔ جب خون بند ہو جائے روزہ رکھنا چاہئے۔ جن لوگوں کو روزہ پھوٹنے کی اجازت ہے۔ اُن کو بلا تکلف سب کے سامنے کھانا پیدا ہنسی جائے۔ بلکہ تعظیم رمضان المبارک لازم ہے۔

روزہ توڑنے کا بیان اور قضار کھنے کا ذکر | فرض روزے کو بلا کسی شدید تکلیف اور قوی بیمار ہو گیا کہ روزہ نہ توڑے سے تو بیان کا اندازہ غالب ہے۔ یا بیماری بڑھ جانے کا احتمال قوی ہے۔ یا الی ٹھیڈ پیاس گئی ہے کہ مر جائیگا۔ تو روزہ توڑنے اتنا جائز بلکہ واجب ہے۔ اگر کسی عذر سے روزے سے قضا ہو گئے ہوں تو جب عذر جاتا ہے جلد ادا کر لینا چاہئے۔ کیونکہ زندگی کا بھروسہ ہنسی ہے۔ کیا خبر ووت آجائے اور فرض ذمہ پر رہے۔ مثلاً بیمار کو مرض سے صحت پانے کے بعد اور مسافر کو سفر سے آنے کے بعد جلد ادا کر لینا چاہئے۔ قstrar کھنے میں اختیار ہے۔ کہ متواتر (یعنی رکھنا تار) رکھے یا بعد اجنب متفرق۔ اگر قstrar کھنے کا وقت پایا یکن بیش ادا کئے مرگیا تو مناسب ہے کہ وارث ہر روز کے بعد پونے دوسری گندم صدقہ کریں۔ اور اگر مال چھوڑ دیا ہے۔ اور روزہ کے صدقہ کی وصیت کر گیا ہے۔ تو ادا کرنا لازم اور واجب ہے۔

سحر کھانے کا بیان اور فضیلت | روزہ کے لئے سحر کھانا مصنون ہے اور باعث ثواب کھایا کر کے اس میں بڑی پرکت ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہنسی کو خوب پیٹ بھر کر کھائے، بلکہ ایک یاد دلقارہ یا چھوارے کا ٹکڑا یا دوچار دانے چجائے گا تب بھی سنت کا ثواب پائے گا۔ افضل و بہتر یہ

ہے کہ رات کے آخری حصہ میں صبح صادق ہونے سے ذرا پہلے کھائے اور دیر ہو گئی اور گمان غالب یہ ہے کہ صبح صادق ہو گئی تو سحر نہ کھانا پا ہے۔ اور الگ گمان غالب رات کا ہوتا کھائے پھر الگ کسی طرح معلوم ہوا کہ فی الحقيقة صبح ہو گئی تر شام تک رکنا اور پھر قضا کھانا لازم ہے۔ اور الگ کسی مرغ یا مردز نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو سحر کھانے کی مانع نہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، بلا تکلف کھاؤ یو۔

روزہ افطار کرنے کا بیان | آنکتاب عزویہ ہو جانے کے بعد افطار میں دیر نہ کرنی چاہیے۔ البتہ جس روزہ ابرہم احتیاط کرنے دیتے ہیں ابتر ہے۔ کجھوڑیا خرما سے افطار کرنا مسلنون اور باعثتِ ثواب ہے۔ الگ یہ نہ ہوں تو پانی بہتر ہے۔ آگ کی کچی ہوئی چیز شلاً روٹی چاول شیرینی وغیرہ سے افطار کرنے سے ہرگز کو اہم است اور لفظان روزہ میں نہیں آتا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کوئی کھل دغیرہ دوسری چیز ہو اور خدا و کھجور سب سے افضل ہے۔ الگ کی دوسرے کی دی ہوئی چیز سے روزہ افطار کرو گے تو تمہارا ثواب ہرگز کم نہ ہو گا۔ اُسکو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر تم اُس کو واپس کر کے کیوں بخیل کھلاتے ہو؟ البتہ یہ مال حرام یا مشتبہ ہو تو ہرگز قبول نہ کرو۔ حدیث و فقہ سے ثابت ہے۔ الگ روزہ افطار کرنے اور کھانے پہلے کیوجہ سے مغرب کی نماز و جماعت میں دش بارہ منٹ کی تاخیر کر دی جائے تو کچھ مصلائف نہیں اور افطار کرنے سے پہلے یہ ختیر دعا کافی ہے۔ اللہمَ لَا تَصْنَعْ دُعَىٰ بِرِّ بَقَاءٍ أَفْطَرْتُ - اور افطار کرنے کے بعد یہ پڑھئے : ذَهَبَ الطَّيَّاعُ وَأَبْلَغَتِ التَّعْرُوفَ وَذَبَّتِ الْجَنَاحَ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -

تراویح اور وتر کا بیان | مسلمون کے فرض اور سنت کے بعد میں رکعت تراویح باجماعت سے ایک قرآن مجید ختم کر دینا چاہیے۔ اس قدر حافظ بلا معاوضہ پڑھنے والا جائے تو تمام رمضان میں ایک قرآن مجید ختم کر دینا چاہیے۔ اس قدر تراویح پڑھنا کو وہ ہے جس سے اکثر مقتدیوں کو تکلیف ہو اور تین دن سے کم میں ختم کرنا اچھا ہے۔ الگ تراویح میں دور رکعت پڑھنا جھوٹی اور پوری چار پڑھ کر سلام پھیرا تو ان چاروں کو دو کی جگہ شمار کرنا چاہیے۔ چار نئے سمجھے جس شخص کی دو پار رکعت تراویح کی وجہ لیں وہ امام کے ہمراہ باجماعت وتر پڑھ لے اور پھر اپنی باقی تراویح ادا کرے تو درست ہے جس شخص کو عشار کے فرض باجماعت نہیں ملے وہ وتر کو امام کے ساتھ باجماعت پڑھ سکتا ہے۔ جو حافظ روپیہ کی طبع میں قرآن مجید سناتا ہے۔ اس سے وہ امام پہتر ہے جو الم ترکیف سے پڑھائے۔ اگر ابھرت مقرر کر کے قرآن مجید سنانا جائے تو نہ امام کو

ثواب ہرگانہ مقتدیوں کو۔ اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں سخت گناہ ہے۔ نابانخ کرتا وحی میں امام بنانا جائز نہیں۔ بہایہ وغیرہ سے ایسا ہی ثابت ہے۔

اعتكاف اور شب قدر کا بیان | اخیر عشرہ میں اعتکاف سنت ہے۔ اگر تمام بستی میں کوئی شخص بھی ذکرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وباں رہتا ہے۔ اعتکاف اسکو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہنا اور سوائے حاجت صروری اور غسل و ضنو کے باہر نہ آتا۔ خاموش رہنا اعتکاف میں ہرگز ضروری نہیں، البتہ نیک کلام کرنا اور بد کلامی اور لڑائی بھیگھڑے سے بچنا چاہئے۔ اعتکاف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں پنجگانہ نماز جماعت سے ہوتی ہو۔ اگر پورے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرنا ہو تو میں تاریخ کو آفتاب عز و بہرنے سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور جب عید کا چاند نظر آئے تو اعتکاف سے باہر ہوئے بھی جائز اور باعثِ ثواب ہے۔ کہ ایک دو روز یا ایک آدمی گھنٹہ کے لئے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہے۔ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ کو ہونا احادیث میں وارد ہے۔ لہذا ان مخصوص راتوں میں بہت محنت سے عبادات میں مشغول رہنا چاہئے۔

صدقة الفطر اس شخص پر واجب ہے، جس کے پاس ضروریات خانہ کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اسی وزن کے روپے ہوں یا زیور ہوں۔ یا مال و جایزاد یا تجارت کا مال ہو یا ساڑھے سات تولہ سرنا ہو یا اسی قدر وزن کی اشتر فیاں یا زیر ہو یہ ضروری نہیں کہ اس مال پر سال بھر بھی گذر گیا ہو اگر کسی کے پاس بہت مال ہے لیکن قرض اسقدر ہے کہ اگر ادا کیا جائے تو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اسی قیمت کا اسباب باتی نہیں رہتا تو اس پر صدقۃ نظر واجب نہیں جس شخص کے پاس مذکورہ بالامال یا اس سے زیادہ ہو وہ اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے اور اپنی چھوٹی نابانخ اولاد کی طرف سے بھی۔ صدقۃ الفطر ایک آدمی کا بیرون انگریزی پر نے دوسری گزہم ہیں یا ان کی قیمت اور بھروساڑھے تین سیر ہے۔ اپنے عزیز اقارب سب سے زیادہ سخت ہیں۔ ایک شخص کو کئی آدمیوں کا صدقۃ الفطر دیا جائے تو درست ہے۔ اور اگر ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کئی عطا ہوں کو دیدیں تو بھی درست ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جس نے کسی عذر سے یا غفلت سے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے لبستر طیک مذکورہ بالا مقدار مال رکھتا ہو۔ صدقۃ الفطر موذن یا امام وغیرہ کو اجرت میں دینا جائز نہیں اور مسجد کی تحریر اور اس کے مصروف میں لگانا بھی درست نہیں۔